

# The Promise of Allah ﷺ of Our Victory and the Glad Tidings of RasulAllah ﷺ of Our Dominance

The promise of Allah ﷺ for victory has been a powerful motivation for the Ummah of Muhammad ﷺ, throughout the fourteen centuries of its existence. In the era of the implementation of Islam, before the destruction of the Khilafah, it inspired the rulers and leaders of the Ummah, as they sought to make Islam dominant over all other ways of life, confounding

the enemy powers and paving the way for opening new lands to Islam. Before the destruction of the Khilafah, the promise of victory from Allah ﷺ inspired Muslim warriors on the battlefield, spurring them to victory after victory over enemies far greater in numbers, to the point that the enemies believed that the Muslims are invincible.

So let the Muslims of our generation heed when Allah ﷺ said:

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Verily, We will indeed make victorious Our Messengers and those who believe, in the life of the world.” [Surah al- Ghaafir

40 :51 ].

Indeed, the promise of Allah (swt) in any matter is not like the promise of the created, for it is never broken and it is never untrue. Allah ﷺ said,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

“Allah never breaks His Promise.” [Surah Aali Imran 3:9 ]

and Allah ﷺ said, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا “And whose words can be truer than those of Allah?” [Surah an-Nisa'a 4:122 ]

Let our generation firmly believe in the promise of Allah ﷺ to

cause the Muslims that believe and undertake righteous deeds to become successors on earth, becoming the leaders and rulers of humankind, granting them security after a situation of fear. Allah ﷺ said

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْفَفُوهُمْ فِي،  
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ  
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۝ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۝ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Allah has promised, to those among you who believe and work righteous deeds, that He will, of a surety, grant them in the land, inheritance (of power), as He granted it to those before them; that He will establish in authority their religion, the

one which He has chosen for them; and that He will change (their state), after the fear in which they (lived), to one of security and peace: 'They will worship Me (alone) and not associate anything with Me.' **If any do reject Faith after this, they are rebellious and wicked.**" [TMQ 24: 55].

Let our generation consider how Allah ﷺ fulfilled His promise to the first and best generation of the Islamic Ummah. They believed and fulfilled the commands of Islam and Allah ﷺ made them victorious over other nations. **The first generation were living under persecuting tyrants, burdened by oppression, with**

countless problems. They were surrounded by enemy powers of far greater numbers and material means. Yet, confident that victory lay in the Hands of Allah ﷺ, the first generation engaged fully in carrying Islam to the people, despite all the obstacles they faced. And confident that Allah ﷺ would support them, the warriors of the Ansaar (ra) fulfilled their duty by granting Nussrah to RasulAllah ﷺ.

Thus the Muslims of that generation were granted victory over Makkah, Khaybar, Bahrayn, all of the Arabian Peninsula and Yemen. They took Jizyah from the Zoroastrians of Hajar and

from some of the border lands of Syria. Then under Abu Bakr As-Siddiq (ra), the first generation took control of the entire Arabian Peninsula and were sent as Islamic armies to the lands of Persia, Ash-Sham and Egypt, opening them to Islam. Then during the time of Umar (ra), the Muslims were granted victory and dominance over the rest of Ash-Sham and Egypt, and most of Persia. Kisra was defeated and utterly humiliated, and he retreated to the furthest point of his kingdom. The mighty Caesar was brought low, his rule over Ash-Sham was overthrown and he retreated to Constantinople. Then under 'Uthman (ra), the Islamic domains spread to the east and the

west. The lands of the west were conquered as far as Cyprus and Spain. Towards the east, the conquests extended as far as China. Kisra was killed, his kingdom was utterly destroyed and the cities of Iraq, Khurasan and Al-Ahwaz were conquered.

Indeed, the first generation saw the promise of Allah ﷺ of victory fulfilled. Through their obedience of Allah ﷺ and His Messenger ﷺ, they witnessed the realization of the glad tidings of RasulAllah ﷺ of their dominance over other nations. RasulAllah ﷺ said,

وَاللَّهُ لَيُتَمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ أَوِ  
الذِّبْعَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

“By Allah, this religion (i.e. Islam) will prevail till a traveler from Sana (in Yemen) to Hadramaut will fear none but Allah, or a wolf as regards his sheep, but you (people) are hasty.”

[Bukhari]

And he ﷺ informed Muslims of the dominance of Islam in the Arabian Peninsula and beyond it into Persia.

RasulAllah ﷺ said,

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُتَمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الطَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ

فِي غَيْرِ جِوَارٍ أَحَدٍ، وَلَتَفْتَحْنَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ

"By the One in Whose Hand is my soul, Allah will make this matter i.e., Islam prevail until a woman riding a camel will come from Al-Hirah and perform Tawaf around the House without needing the protection of anybody, and the treasures of Kisra the son of Hurmuz will be opened."

He said, "Kisra the son of Hurmuz" He said,

نَعَمْ، كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ، وَلَيُبَذَّلَنَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

"Yes, Kisra the son of Hurmuz, and wealth will be given until there will be no one who will accept it." `

Adiyy bin Hatim (ra) said: “Now it is happening that a woman riding a camel comes from Al-Hirah and performs Tawaf around the House without needing the protection of anybody, and I was among those who opened the treasure of Kisra the son of Hurmuz.”

As for our generation, along with the promise of Allah ﷺ of victory, we too have glad tidings of RasulAllah ﷺ of our dominance. These glad tidings are those that previous generations never witnessed and are left for us to witness inshaaAllah, were we to march forwards, in complete

obedience to Allah ﷺ and His Messenger ﷺ.

RasulAllah ﷺ said,

ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبَرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ سُكْتَ

“Afterwards there will be an oppressive rule, and it will last as long as Allah wishes it to last, and then Allah will raise it up if He wished. Afterwards there will be a Khilafah on the Method of the Prophethood.” [Reported by Ahmad]

RasulAllah ﷺ said,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّىٰ يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمٌ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ . إِلَّا الْغَرْقَادُ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ

“The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews.” [Muslim]

Abu Hurairah (ra) narrated,

وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) غَزْوَةَ الْهَنْدِ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أَنْفِقْ نَفْسِي وَمَالِي، وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشَّهَادَاءِ، وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هَرِيرَةَ الْمُحَرَّرُ

“The Messenger (saw) promised us the conquest of India. If I was to come across that, I will spend my soul and my wealth. If I am killed then I am among the best of martyrs, and if I return then I am Abu Huraira the freed” [Ahmad, An-Nisa'i, Al-Hakim].

And reported by Thawban:

عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ: عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهَنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

“Two groups of my Ummah Allah has protected from the Hellfire: a group that will conquer India and a group that will be with 'Isa ibnu Maryam.” [Ahmad and An-Nisa'i]

In the Sahih it was recorded that the Messenger of Allah said:  
إِنَّ اللَّهَ زَوَّى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَسَيْلَانَ مُلَكُّ أُمَّتِي مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا  
“Allah showed me the earth and I looked at the east and the west. The dominion of my Ummah will reach everywhere I was shown.”

Al-Bukhari recorded that Abu Hurayrah said that the

Messenger of Allah said,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكْمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضْعَ الْجِزِيَّةَ، وَيَفْيِضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ خَيْرًا لَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

“By Him in Whose Hands my soul is, the son of Maryam (‘Isa) will shortly descend among you as a just ruler, and will break the cross, kill the pig and abolish the Jizyah. Then there will be an abundance of wealth and nobody will accept charitable gifts any more. At that time, one prostration will be better for them than this life and all that is in it.”

Imam Ahmad reports in his Musnad that Abdullah bin Amr bin Al-'As (ra) mentioned,

بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَذْسِنَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا : قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا ) ، يَعْنِي : قُسْطَنْطِينِيَّةَ

“Whilst we were around the Prophet (saw) writing he was asked, ‘Which of the two cities will be opened first, Constantinople or Rome?’ He (the Prophet Muhammad) answered, ‘The city of Heraclius will be opened first!’”

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہماری کامیابی کا وعدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

## طرف سے ہماری بالادستی کی بشارت

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فتح و کامیابی کا وعدہ پچھلے چودہ سو سالوں کے دوران امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھانے اور اسے متحرک کرنے کا ایک انتہائی طاقتور ذریعہ رہا ہے۔ خلافت کی تباہی سے قبل

اسلام کے نفاذ کے دور میں جب مسلم حکمران اور قائدین اسلام کو دیگر تمام ادیان، طرزِ زندگی اور نظریہ ہائے

حیات پر بالادستی دلانے کی جدوجہد کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فتح و کامیابی کا وعدہ ان کی ہمت بڑھانے کا سبب ہوتا تھا اور وہ بھرپور کوشش کرتے تھے اور دشمن کی طاقت سے مروعہ ہوئے بغیر اسلام کے لیے نئے علاقے کھولتے چلے جاتے تھے۔ ماضی میں خلافت کی تباہی سے قبل کے ادوار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کامیابی کا وعدہ میداں جنگ میں مسلمان سپاہیوں کی ہمت افزاں کا باعث ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے کئی گناہ بڑے دشمنوں کے خلاف ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل کرتے چلے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ دشمن یہ گمان کرنے لگے کہ مسلمانوں کو شکست دینا ممکنات میں سے نہیں۔

، ہمارے دور کے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان سے روشنی لینی چاہیے کہ

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو ایمان والے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں" (غافر: 51)۔ یقیناً اللہ

سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ کسی مخلوق کے وعدے کی طرح نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ کبھی ٹوٹا نہیں اور کبھی

، جھوٹا ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُلُّ فُلُوسَ الْمِيعَادِ

، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا" (آل عمران: 9) اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا"

وَمَنْ أَصْنَدْقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ

اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے " (النساء: 122)۔"

ہمارے دور کی اس نسل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے پر کامل یقین قائم کرنا ہے

تاکہ مسلمانوں میں وہی ایمانی جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ صالح اعمال سرانجام دیں اور دنیا کی قیادت ان کے ہاتھ میں

آجائے اور وہ انسانیت کے رہنماء اور حکمران بن جائیں اور انسانیت کو خوف کی صورت حال سے نکال کر امن و تحفظ

فراہم کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا

اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ  
خَوْفِهِمْ أَمْنًا جَيَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا جَوَّمَنَ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ

اللہ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں و عده فرم اچکا ہے کہ انہیں ضرور ز میں میں " حکمران بنائے گا جیسا کہ ان لوگوں کو بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمادے گا جسے وہ ان کے لیے پسند فرم اچکا ہے اور ان کے اس خوف و خطر کو امن و امان سے بدل دے گا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ کفر

کریں وہ یقیناً فاسق ہیں" (النور: 55)۔

ہمارے دور کے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہی حاصل کرنی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی امت کی پہلی اور سب سے بہترن نسل کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کیا تھا۔ اُس نسل نے اسلام کے احکامات پر کامل یقین کے ساتھ عمل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دوسری اقوام پر فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ اسلام کی پہلی نسل ظالم جا بروں کے سائے میں زندگی گزار رہی تھی، ان پر ظلم کے پھاڑ توڑے جاری ہے تھے اور ان کے سامنے ایک کے بعد دوسرا مسئلہ جننم لے رہا تھا۔ وہ ایسے دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے جن کی تعداد اور مادی و سائل

اُن سے بہت زیادہ تھے۔ لیکن چونکہ انہیں اس بات پر پورا اعتماد تھا کہ کامیابی کی کنجی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لہذا اُس پہلی نسل نے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں صرف کر دیں۔ اور چونکہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے پر مکمل اعتماد تھا اسی لیے انصار کے جنگجوؤں نے رسول اللہ ﷺ کو نصرۃ (عسکری مدد) فراہم کر کے اسلامی ریاست کے قیام میں اپنی ذمہ داری پوری کی۔ لہذا اُس دور کے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ، خیبر، بحرین، یمن اور پورے جزیرہ نما عرب پر کامیابی عطا فرمائی۔ انہوں نے حجر کے آتش پر ستون اور شام کی سرحد پر واقع قبائل پر حاوی ہو کر ان سے جزیہ

وصول کیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اُس پہلی نسل نے پورے جزیرہ نما عرب کے معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اسلامی افواج کو فارس، شام اور مصر کی جانب بھیجا تاکہ یہ علاقے اسلامی ریاست کا حصہ بن جائیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے شام اور مصر اور ایران کے زیادہ تر حصے پر کامیابی عطا فرمائی۔ کسریٰ کو بدترین شکست ہوئی اور وہ شدید ذلیل و رسوایہ اور وہ اپنی ریاست کے سب سے آخری کونے کی جانب پسپا ہو گیا۔ قیصر کی عظیم الشان طاقت کو ڈھول چڑادی گئی، شام پر اس کے اقتدار کا خاتمه کر دیا گیا اور وہ قسطنطینیہ (موجودہ استنبول) کی جانب پسپا ہو گیا۔ اس

کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کی بالادستی مشرق و مغرب دونوں جانب پھیل گئی۔ مغرب میں قبرص اور اسپین تک فتوحات ہوتیں اور مشرق میں مسلمان چین تک پہنچ گئے۔ کسری کو قتل کر دیا گیا، اس کی ریاست تباہ و بر باد ہو گئی اور عراق کے شہر خراسان اور الاحواز پر اسلام کا چھنڈالہر انے لگا۔

یقیناً اسلام کی پہلی نسل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کامیابی کے وعدے کو پورا ہوتے دیکھا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی مکمل اطاعت کی اور انہوں نے دوسری اقوام پر مسلمانوں کی بالادستی کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی بشارت کو بھی پورا ہوتے دیکھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

وَاللَّهُ لَيْتَمَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخَافُ «

«إِلَّا اللَّهُ أَوِ الْذِبَابُ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

اللَّهُ كَيْفَ يَقْسِمُ يَهُ امْرَ (اسلام) ضرور کمال کو پہنچے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام صنعت سے حَضْر موت تک ” سفر کرے گا لیکن اسے اللَّهُ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہو گا۔ یا صرف بھیڑ بیٹے کا خوف ہو گا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو،“ (بخاری)۔ رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے مسلمانوں کو پورے جزیرہ نما عرب

اور ایران سے آگے تک اسلام کی بالادستی کی بشارت دی تھی۔ رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُتَمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الظُّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى «تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جَوَارِ أَحَدٍ، وَلَا تَفْتَحْ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمَزَ

اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ اس معاملے (اسلام) کو غالب کرے گا یہاں تک کہ ”  
ہودج میں ایک عورت اکیلی حیرہ سے سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبہ کا طواف کرے گی اور اللہ کے سوا اسے کسی کا  
بھی خوف نہ ہو گا۔ اور ہر مز کے بیٹے کسریٰ کے خزانے تمہیں حاصل ہوں گے۔ میں نے حیرت سے کہا ”کسریٰ بن

”ہر مز

، آپ ﷺ نے فرمایا ”

”نَعَمْ، كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ، وَلَيُبْذَلَنَّ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

ہاں کسریٰ بن ہر مز! اور ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا چاندی بھر کر نکلے گا لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو

اسے (زکوٰۃ) قبول کر لے"۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "اب وہ ہو رہا ہے کہ ایک عورت اونٹ پر سوار جیرہ سے آتی ہے اور بغیر کسی کے تحفظ کے اللہ کے گھر کا طواف کرتی ہے، اور میں اُن لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ہر مز کے بیٹے کسری کے خزانے کو (مال غنیمت کے طور پر) حاصل کیا تھا"۔

جہاں تک ہمارے دور اور ہماری نسل کا تعلق ہے تو ہمارے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کامیابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اقوامِ عالم پر بالادستی کی بشارت موجود ہے۔ بہ وہ وعدے اور بشارتیں ہیں جن کا مشاہدہ پچھلی نسلوں نے نہیں کیا۔ ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ان وعدوں کی تکمیل اور بشارتوں سے فیضیاب

ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

«ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شاءَ أَنْ»  
«يَرْفَعُهَا. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ سُكِّتَ

اس کے بعد ظلم کی حکمرانی ہو گی، اور اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے، اور پھر جب اللہ چاہیں گے "اسے اٹھائیں گے۔ اس کے بعد نبوت کے طریقے پر خلافت کا دور ہو گا" (احمد)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّىٰ يَخْتَبِئَ  
الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمٌ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا  
«يَهُودِيٌّ خَلْفِيٌّ فَتَعَالِ فَاقْتُلْهُ . إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ

آخری وقت (قیامت) اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کریں اور مسلمان  
یہودیوں کو قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا اور درخت یا پتھر  
یہ کہے گا: مسلمانو، اللہ کے غلامو، ادھر میرے پیچھے ہے یہودی؛ آؤ اور اسے قتل کرو؛ سوائے غرقد کے درخت کے

کہ وہ یہود کا درخت ہے " (مسلم)۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) غَزْوَةَ الْهَنْدِ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أَنْفِقْ نَفْسِي وَمَالِي، وَإِنْ ۝  
« قُتِلْتُ كَذَلِكَ أَفْضَلُ الشَّهَادَاءِ، وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هَرِيرَةَ الْمُحَرَّرِ ۝

اللہ کے رسول ﷺ نے ہم سے ہند کی فتح کا وعدہ کیا۔ اگر میرے ہوتے ہوئے ایسا ہو تو میں اپنی جان اور مال ”

دونوں اس میں لگادوں گا۔ اگر میں مارا گیا تو میں بہترین شہداء کی رفاقت میں ہوں گا، اور اگر میں زندہ واپس لوٹ

آیا تو میں ابو ہریرہ (گناہوں سے) آزاد ہوں گا" (احمد، نسائی، حاکم)۔ اور ثوبانؓ نے روایت کی کہ

عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ: عِصَابَةٌ تَغْزُ الْهَنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ  
«مع عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

میری امت کے دو گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے: ایک وہ جو ہند فتح کرے گا"

اور دوسرا وہ جو عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ کے ساتھ ہو گا" (احمد، نسائی)۔

،رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْرَمَايَا

إِنَّ اللَّهَ زَوَّى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَسَارِقَهَا وَمَغَارَبَهَا، وَسَيَّلْتُ مُلْكَ أُمَّتِي مَا زُوِّيَ  
لِي مِنْهَا

اللہ نے مجھے زمین دکھائی اور میں نے مشرق اور مغرب کی جانب دیکھا۔ جہاں تک مجھے زمین دکھائی گئی وہاں تک

میری امت کی بالادستی ہو گی"۔

بخاری نے روایت کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا  
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكْمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلَبَ،  
وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ  
«السَّجْدَةُ خَيْرًا لَّهُم مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مریم کے بیٹے (عیسیٰ) جلد ہی تم میں حکمران کے طور پر ”  
آئیں گے، اور صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو قتل اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ پھر دولت کی فراوانی ہو گی اور کوئی

صدقة وصول نہیں کرے گا۔ اور اُس وقت ایک سجدہ مسلمانوں کے لیے اس زندگی اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہو گا۔

امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن العاث رضی اللہ عنہ نے بتایا  
بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكْتُبُ ، إِذْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوْ لَا : قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُوْمِيَّةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَدِينَةُ هَرَقْلَ تُفْتَحُ أَوْ لَا ) ، يَعْنِي : قُسْطَنْطِينِيَّةَ  
بم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے لکھ رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا، قسطنطینیہ یا روم میں کون سا شہر پہلے فتح

ہو گا؟ آپ ﷺ نے جواب دیا، 'ہر کو لیس کا شہر پہلے فتح ہو گا!'۔